

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expression. (10)

اپنے پوشیدہ عیبوں کو معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ اول ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں لگتے یا پھر ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں۔ یا پھر ان سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ بر خلاف اس کے ہمارا دشمن ہم کو خوب ٹھولتا ہے اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے، گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بڑا بنا دیتا ہے۔ مگر اس میں کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے۔ دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لیے ہمیں اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو دشمن دوست سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔

Page 2 of 2

Translation

An order to be aware of our hidden flaws, it is essential to see what our enemies say about us. Our friends often praise us in accordance with our desires. Initially, they do not consider our flaws to be as flaws. Either they cherish our feelings ~~so~~ so much that they hide our flaws to avoid hurting us, or they overlook them. On the contrary, our ^{enemies} enemies ^{thoroughly} thoroughly ^{criticize} criticize us and ^{find} find our flaws from every angle even if they exaggerate a

Date: _____

Day: _____

small issue due to ^{enmity}. Yet there is
some reality in that. ~~Friends~~ ^{A friend} always
promotes the virtues of his friend but
enemy propagates his flaws. so that we
should be more thankful of our enemy
that they inform us of our flaws. As we see
in this context, an enemy proves better
than a friend.

3/10